

# Visit of NSA to Moscow (07-09 February 2023)

February 09, 2023

## این ایس اے کا ماسکو دورہ (09-07 فروری، 2023) فروری 09، 2023

این ایس اے جناب اجیت ڈوبھال 07-09 فروری، 2023 کو ماسکو کا دورہ کیا۔ انہوں نے 08 فروری 2023 کو افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے سکرپٹریوں/قومی سلامتی کے مشیروں کے 5ویں کثیرالجہتی اجلاس میں حصہ لیا۔ اس اجلاس میں میزبان ملک کے علاوہ ہندوستان، ایران، قزاقستان، کرغزستان، چین، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے نمائندے بھی شامل ہوئے۔ جس میں افغانستان کو درپیش سلامتی اور انسانی چیلنجز امور سمیت متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اپنے تبصرے میں این ایس اے نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین علاقائی یا عالمی سطح پر تشدد پسندوں اور دہشت گردی کی پناہ گاہ نہ بنے، ساتھ ہی دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے انٹلیجنس اور سلامتی کے شعبے میں بشمول یو این ایس سی آر 1267 کے تحت نامزد کردہ تنظیموں کے ساتھ باہمی تعاون پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ افغانی عوام کی فلاح و بہبود اور انسانی تقاضے ہندوستان کی اولین ترجیح ہے۔

این ایس اے جناب اجیت ڈوبھال نے روسی وفاقیہ کے صدر عزت مآب ولادمیر پوتن سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ اور علاقائی مسائل سمیت وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران ہندوستان-روس خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو نافذ کرنے کی سمت کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔

09 فروری، 2023 کو این ایس اے جناب اجیت ڈوبھال نے روسی سلامتی کونسل کے سکرپٹری عزت مآب نکولائی پیٹروشیف کے ساتھ باہمی بات چیت کی اور دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے روسی وفاقیہ کے نائب وزیراعظم اور تجارت و صنعت کے وزیر جناب ڈینس مانتوروف سے بھی ملاقات کی اور باہمی دفاعی اور اقتصادی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔

ماسکو

فروری 09، 2023

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.